

اپرنٹیشپس (کار آموزی) کے لیے والدین کا رہنما کتابچہ

بطور والدین، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ کو اپنے کیریئر میں ممکنہ حد تک بہترین شروعات ملے۔ سکول چھوڑنے کے بعد نو عمر افراد کے لیے متعدد اختیارات دستیاب ہوتے ہیں، اور اس رہنما کتابچہ میں، ہم نے ایک کامیاب کیریئر کے لیے اپرنٹیشپس کے بارے میں کلیدی راہ کے بطور معلومات اور فوائد کی وضاحت کی ہے۔

اپرنٹیشپ کیا ہے؟ یہ تربیت کے ساتھ، ایک مستند کام ہے، مطلب یہ کہ سیکھتے ہوئے آپ کما سکتے ہیں اور ملکی پیمانے پر تسلیم شدہ لیاقت حاصل کر سکتے ہیں۔

تنخواہ

کام سیکھنے والوں کے لیے کم از کم اجرت £3.70 فی گھنٹہ ہے، لیکن بہت سے آجرین اس سے زیادہ ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ سیکٹر، علاقہ اور اپرنٹیشپس کی سطح پر مبنی ہے جیسے کہ ہائر اپرنٹیشپس £500 فی ہفتہ تک کی ادائیگی کرتے ہیں۔

مخصوص اپرنٹیشپ کے پیشوں میں تنخواہوں اور داخلہ کے معیار سے متعلق مزید معلومات تک 'Find an apprenticeship' (اپرنٹیشپس تلاش کریں) پر خالی آسامیوں کو دیکھ کر رسائی کی جاسکتی ہیں۔

اس کے فوائد کیا ہیں؟

اپرنٹیشپس اب ڈگری سطح اور اس سے آگے تک دستیاب ہیں۔ فی الحال 70 سے زیادہ قومی یونیورسٹیاں اپرنٹیشپس کی متعدد ڈگری کی پیشکش کر رہی ہیں جس میں پورے سال میں مزید کی تصدیق ہونی ہے۔

- تنخواہ اور بامعاوضہ چھٹی حاصل کرنا؛
- ترقی کے بہترین مواقع، آیا مزید مطالعہ کرنے میں یا جائے کار کے اندر درجے کے اضافہ میں؛
- آئندہ کمانے کا زیادہ امکان - کام سیکھنے والوں کو اپنی تربیت مکمل کرنے پر تنخواہ میں نمایاں اضافہ ملتا ہے اور ایسے فرد جو ہائر اپرنٹیشپ مکمل کرتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی کی کمانی میں تخمینی طور پر £150,000 کا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔*

اس میں کون سی سطحیں موجود ہیں؟

موجودہ اہلیتوں اور لیاقتوں کی بنیاد پر درخواست دینے کے لیے اپرنٹیشپ کی متعدد سطحیں ہیں۔ اپرنٹیشپس میں مساوی تعلیمی سطحیں ہوتی ہیں:

نام	سطح	مساوی تعلیمی سطح
انٹر میڈیٹ	2	گریڈز C – A* یا 4 – 9 پر GCSE 5 پاس
ایڈوانسڈ	3	A 2 سطح پاس
ہائر	4, 5, 6 اور 7	بنیادی ڈگری اور اس سے اوپر
ڈگری	6 اور 7	بیچلر یا ماسٹر ڈگری

سبھی اپرنٹیشپس تسلیم شدہ صنعتی معیارات یا لیاقتوں کے لحاظ سے ہیں جن میں ملازمت کے دوران یا ملازمت سے باہر کی تربیت کے عناصر شامل ہیں۔ کچھ اپرنٹیشپس میں سیکھنے والوں کی اہلیت اور کام کی نوعیت سے متعلق مہارت کی تشخیص کے لیے پروگرام کے اختتام پر ایک تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔

میں درخواست کیسے دوں؟

بمہ وقت پورے انگلینڈ میں مختلف کیریئرز اور صنعتوں میں آن لائن 20,000 – 12,000 کے درمیان اپرنٹیشپ کی خالی آسامیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ GOV.UK/apply-apprenticeship پر جائیں۔ آپ کلیدی لفظ (کام کی نوعیت، پیشہ کی قسم یا اپرنٹیشپ کی سطح) اور مقام کے ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں۔

درست ملازمت سامنے آنے پر، آپ کا بیٹا یا بیٹی بس ویب سائٹ پر رجسٹر کر کے قدم بہ قدم ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے اس عہدہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ہمارے یوٹیوب چینل پر درخواست دینے سے متعلق کارآمد اشارے اور مفید نکات ساتھ ہی اپرنٹیشپس پر دوسرے ویڈیوز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں اور apprenticeships/NAS (اپرنٹیشپ/ نیشنل اپرنٹیشپ سروس) تلاش کریں۔

اگر وہ اپرنٹیشپ یا ملازمت کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، تو وہ ضروری ہونے پر، کام کا قابل قدر تجربہ حاصل کرنے اور اپنی انگریزی اور ریاضی کو بہتر کرنے کے مواقع کے لیے مقامی آجر کے ساتھ ٹرینیشپ آزما سکتے ہیں۔ مزید معلومات یا ٹرینیشپ کے مواقع کے لیے درخواست دینے کے واسطے GOV.UK/find-traineeship پر جائیں۔

سکول چھوڑنے کی عمر

حکومت کا کہنا ہے کہ سبھی نو عمر افراد کو لازمی طور پر کم از کم اپنی 18 ویں سالگرہ تک کچھ قسم کی تعلیم یا تربیت حاصل کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب سکول میں ہی رہنا نہیں ہے؛ نو عمر افراد کے پاس اس بارے میں اختیار ہے کہ وہ 16 سال کی عمر کے بعد تعلیم یا تربیت کیسے جاری رکھتے ہیں، جو کہ اپرنٹیشپ یا ٹرینیشپ کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔

GOV.UK
Apprenticeships
(اپرنٹیشپس) تلاش کریں